

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

# آؤقرآن سمجھیں

آسان طریقے سے

G13c

کورس - 4

گرامر: جمع تکسیر

صفحه-13، اشارہ-c کے ساتھ

مرتب: ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم  
بانی و ڈائریکٹر انڈر اسٹینڈ القرآن اکیڈمی

سوال: کیا آپ نے سبق پڑھا؟

.B 50 فیصد سے زیادہ

.A 100 فیصد

.D آئندہ دیکھیں گے۔ ان شاء اللہ

.C 25 فیصد سے زیادہ



اس کورس میں ہم  
صرف اور نحو کے کچھ اسباق سیکھیں گے

## صرف کے اسباق

اسم مفعول	اسم فاعل	فعل نہی	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضی	
مَفْعُولَةٌ	فَاعِلَةٌ	لَا تَفْعَلِي	إِفْعَلِي	تَفْعَلُ	فَعَلَتْ	مؤنث کے صیغے (ہی وَ رَبُّهَا) (3 حروف والے و مزید فیہ)
مُسَلِّمَةٌ	مُسَلِّمَةٌ	لَا تُسَلِّمِي	أَسَلِّمِي	تُسَلِّمُ	أَسَلَّمَتْ	
مَفْعُولَانِ	فَاعِلَانِ	لَا تَفْعَلَا	إِفْعَلَا	يَفْعَلَانِ	فَعَلَا	دو کے صیغے (هُمَا، رَبُّهُمَا)
				يُسْمَعُ	سَمِعَ	جہول کے صیغے (3 حروف والے و مزید فیہ)
				يُنزَلُ	أُنزِلَ	
—	كَرِيمٌ	لَا تُكْرِمُ	أُكْرِمُ	يُكْرِمُ	كَرَّمَ	کرم کے صیغے

جَمْعُ تَكْسِيرٍ				إِسْمٌ مُبَالَغَةٌ			إِسْمٌ تَفْضِيلٌ		إِسْمٌ صِفَةٌ		إِسْمٌ مَكَانٌ		
أَفْعَالٌ	فُعُولٌ	فُعَلَاءٌ	فُعُلٌ	فَعَّالٌ	فَعُولٌ	فَعُولٌ	فَعِيلٌ ← أَفْعَلٌ	فَعِيلٌ	فَعْلَانٌ	مَفْعَلَةٌ	مَفْعِلٌ	مَفْعَلَةٌ	
أَسْمَاءٌ	قُلُوبٌ	شُرَكَاءٌ	رُسُلٌ	غَفَّارٌ	شُكُورٌ	فَيُّومٌ	كَبِيرٌ ← أَكْبَرٌ	كَرِيمٌ	كَسْلَانٌ	مَسْجِدٌ	مَدْرَسَةٌ	مَخْرَجٌ	

نحو کے اسباق؛ فعل مضارع کی تبدیلیاں

لَمْ وَشَرَطُ، لَامَاتٍ وَلَنْ

یہ تو آپ کو معلوم ہے: لَا تَفْعَلْ شَرًّا

لَمْ، لَمَّا، لَا، ...  
(ناہیہ)

جو کوئی لَمْ يَفْعَلْ خَيْرًا

إِنْ، مَنْ، مَا، ...

إِنْ يَفْعَلْ، يَكْسِبُ أَجْرًا

فَلْيَفْعَلْ خَيْرًا

لِ

لَامَاتٍ

لِ

انسان کو پیدا کیا گیا لِيَفْعَلْ خَيْرًا

لِ

ایک اچھا انسان لِيَفْعَلَنَّ خَيْرًا

لَنْ، أَنْ، حَتَّى، ...

اور ایک برا انسان لَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا



# پچھلے اسباق میں ہم نے سیکھا

## صرف کے اسباق

اسم مفعول	اسم فاعل	فعل نہی	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضی
مَفْعُولَةٌ	فَاعِلَةٌ	لَا تَفْعَلِي	اِفْعَلِي	تَفْعَلُ	فَعَلْتُ
مُسَلَّمَةٌ	مُسَلِّمَةٌ	لَا تُسَلِّمِي	اَسَلِّمِي	تُسَلِّمُ	اَسَلَّمْتُ
مَفْعُولَانِ	فَاعِلَانِ	لَا تَفْعَلَا	اِفْعَلَا	يَفْعَلَانِ	فَعَلَا

مؤنث کے صیغے (ہی وَرَبُّهَا)  
(3 حروف والے و مزید فیہ)



دو کے صیغے (هُمَا، رَبُّهُمَا)



مُجْهُولِ کے صیغے  
(3 حروف والے و مزید فیہ)



کَرَمِ کے صیغے



—	كَرِيمٍ	لَا تُكَرِّمُ	اُكْرِمُ	يُكْرِمُ	كَرَّمَ
---	---------	---------------	----------	----------	---------

جَمْعُ تَكْسِيرٍ			
فُعُلٌ	فُعَلَاءٌ	فُعُولٌ	أَفْعَالٌ
رُسُلٌ	شُرَكَاءٌ	قُلُوبٌ	أَسْمَاءٌ

إِسْمٌ مُبَالَغَةٌ ✓		
فَعُولٌ	فَعُولٌ	فَعَّالٌ
قَيُّومٌ	شُكُورٌ	غَفَّارٌ

إِسْمٌ تَفْضِيلٌ ✓		إِسْمٌ صِفَةٌ ✓	
فَعِيلٌ ← أَفْعَلٌ	فَعْلَانٌ	فَعِيلٌ	مَفْعَلَةٌ
كَبِيرٌ ← أَكْبَرُ	كَسْلَانٌ	كَرِيمٌ	مَفْعَلٌ

إِسْمٌ مَكَانٌ ✓			
مَفْعَلٌ	مَفْعَلٌ	مَفْعَلَةٌ	مَفْعَلٌ
مَخْرَجٌ	مَسْجِدٌ	مَدْرَسَةٌ	مَفْعَلٌ

الحمد لله



صرف کے اسباق

اسم مفعول	اسم فاعل	فعل نہی	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضی	
مَفْعُولَةٌ	فَاعِلَةٌ	لَا تَفْعَلِي	اِفْعَلِي	تَفْعَلُ	فَعَلْتُ	مؤنث کے صیغے (ہی وَرَبُّهَا) (3 حروف والے وزنیہ)
مُسَلِّمَةٌ	مُسَلِّمَةٌ	لَا تُسَلِّمِي	اَسَلِّمِي	تُسَلِّمُ	اَسَلَّمْتُ	دو کے صیغے (هُمَا، رَبُّهُمَا)
مَفْعُولَانِ	فَاعِلَانِ	لَا تَفْعَلَا	اِفْعَلَا	يَفْعَلَانِ	فَعَلَا	مُجْهُولِ كَالصِّيغَةِ (3 حروف والے وزنیہ)
				يُسْمَعُ	سَمِعَ	
				يُنزِلُ	اُنزِلَ	
—	كَرِيمٌ	لَا تَكْرُمُ	اَكْرُمُ	يَكْرُمُ	كَرُمَ	كَرْمِ كَالصِّيغَةِ



جَمْعُ تَكْسِيرٍ				اِسْمُ مُبَالَغَةٍ			اِسْمُ تَفْضِيلٍ		اِسْمُ صِفَةٍ		اِسْمُ مَكَانٍ		
فُعُلٌ	فُعَلَاءٌ	فُعُولٌ	أَفْعَالٌ	فَعُولٌ	فَعُولٌ	فَعَّالٌ	فَعِيلٌ ← أَفْعَلٌ	فَعْلَانٌ	فَعِيلٌ	مَفْعَلَةٌ	مَفْعِلٌ	مَفْعَلٌ	
رُسُلٌ	شُرَكَاءٌ	قُلُوبٌ	أَسْمَاءٌ	قَيُّومٌ	شُكُورٌ	غَفَّارٌ	كَبِيرٌ ← أَكْبَرٌ	كَسْلَانٌ	كَرِيمٌ	مَدْرَسَةٌ	مَسْجِدٌ	مَخْرَجٌ	



# جمع کی دو قسمیں

# جمع کی دو قسمیں

جمع سالم

آخر میں **ون**، **ین** بڑھائیں!

# جمع کی دو قسمیں

## جمع سالم

آخر میں **ون، ین** بڑھائیں!

مُسَلِّمٌ ← مُسَلِّمُونَ، مُسَلِّمِينَ

مُؤْمِنٌ ← مُؤْمِنُونَ، مُؤْمِنِينَ

مُسَلِّمَةٌ ← مُسَلِّمَاتُ

# جمع کی دو قسمیں

جمع تکسیر

جو جمع سالم کے قاعدے کو توڑے

بیت ← بیوت
عمل ← أعمال
بقرة ← بقر

جمع سالم

آخر میں ون، ین بڑھائیں!

مسلم ← مسلمون، مسلمین
مؤمن ← مؤمنون، مؤمنین
مسلمة ← مسلمات

# جمع تکسیر (ٹوٹی ہوئی جمع)

• ایسے انوکھے قواعد ہر زبان میں ہوتے ہیں انگریزی میں بھی ہیں مثال کے طور پر:

**Man** → **men** (mans)

**Tooth** → **teeth** (tooths)

**Mouse** → **mice** (mouses)

سوال :- ٹوٹی ہوئی جمع کو ٹوٹی ہوئی جمع کیوں کہتے ہیں؟ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A ایسے ”انوکھے“ قاعدے ہر زبان میں ہوتے ہیں

B یہ قاعدوں کو نہیں توڑتی ہے

C یہ صحیح جمع ہے

D یہ قاعدہ کو توڑتی ہے

سوال :- ٹوٹی ہوئی جمع کو ٹوٹی ہوئی جمع کیوں کہتے ہیں؟ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A ایسے ”انوکھے“ قاعدے ہر زبان میں ہوتے ہیں

B یہ قاعدوں کو نہیں توڑتی ہے

C یہ صحیح جمع ہے

D یہ قاعدہ کو توڑتی ہے

سوال :- ٹوٹی ہوئی جمع --- کی طرح ہے ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A لفظ صحیح جمع

B لفظ تشنیہ مؤنث

C لفظ واحد مؤنث

D لفظ جمع مؤنث



سوال :- ٹوٹی ہوئی جمع --- کی طرح ہے ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A لفظ صحیح جمع

B لفظ تشنیہ مؤنث

C لفظ واحد مؤنث

D لفظ جمع مؤنث


الحمد لله



هُوَ هَذَا ذَلِكَ الَّذِي

مُسْلِمٌ

فَاعِلٌ فَعْلٌ يَفْعَلُ



اردو میں ہم کہتے ہیں:

بڑی آنکھیں

اچھی کتابیں

چوڑی سرٹکیں

اوپنی عمارتیں


اسی طرح عربی میں جمع تکسیر کا لفظ واحد مؤنث ہوتا ہے۔

هُوَ هَذَا ذَلِكَ الَّذِي

بَيْتٌ

فَاعِلٌ فَعْلٌ يَفْعَلُ

# جمع تکسیر کا لفظ واحد مؤنث ہوتا ہے



- قاعدہ کو توڑنے پر سزا
- جمع کے قاعدہ کو توڑا ہے۔ (Plurality has gone)
- صنف مؤنث میں بدل گیا ہے

میموری ٹپ

الحمد لله





آئیے، اس اصول کو یاد رکھنے کے لیے اس کی کچھ مشق کرتے  
ہیں۔

بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ

وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے



# بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ  
وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے



هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ  
وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے

## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ  
وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے



هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ  
وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے



هَذَا بَيْتٌ

# بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

<p>هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے</p>	<p>← هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے</p>
<p>هَذِهِ بُيُوتٌ</p>	<p>← هَذَا بَيْتٌ</p>

## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے	←	هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے
هَذِهِ بُيُوتٌ	←	هَذَا بَيْتٌ
	←	ذَلِكَ بَيْتٌ

## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے	←	هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے
هَذِهِ بُيُوتٌ	←	هَذَا بَيْتٌ
تِلْكَ بُيُوتٌ	←	ذَلِكَ بَيْتٌ

## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے	←	هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے
هَذِهِ بُيُوتٌ	←	هَذَا بَيْتٌ
تِلْكَ بُيُوتٌ	←	ذَلِكَ بَيْتٌ
	←	الْبَيْتُ الَّذِي وہ خاص گھر جو



## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے	←	هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے
هَذِهِ بُيُوتٌ	←	هَذَا بَيْتٌ
تِلْكَ بُيُوتٌ	←	ذَلِكَ بَيْتٌ
الْبُيُوتُ الَّتِي وہ سب خاص گھر جو	←	الْبَيْتُ الَّذِي وہ خاص گھر جو

## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے	←	هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے
هَذِهِ بُيُوتٌ	←	هَذَا بَيْتٌ
تِلْكَ بُيُوتٌ	←	ذَلِكَ بَيْتٌ
الْبُيُوتُ الَّتِي وہ سب خاص گھر جو	←	الْبَيْتُ الَّذِي وہ خاص گھر جو
	←	أَصْبَحَ الْبَيْتُ جَدِيدًا گھر نیا ہو گیا

## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے	←	هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے
هَذِهِ بُيُوتٌ	←	هَذَا بَيْتٌ
تِلْكَ بُيُوتٌ	←	ذَلِكَ بَيْتٌ
الْبُيُوتُ الَّتِي وہ سب خاص گھر جو	←	الْبَيْتُ الَّذِي وہ خاص گھر جو
أَصْبَحَتِ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً گھرنے ہو گئے	←	أَصْبَحَ الْبَيْتُ جَدِيدًا گھر نیا ہو گیا

## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے	←	هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے
هَذِهِ بُيُوتٌ	←	هَذَا بَيْتٌ
تِلْكَ بُيُوتٌ	←	ذَلِكَ بَيْتٌ
الْبُيُوتُ الَّتِي وہ سب خاص گھر جو	←	الْبَيْتُ الَّذِي وہ خاص گھر جو
أَصْبَحَتِ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً گھرنے ہو گئے	←	أَصْبَحَ الْبَيْتُ جَدِيدًا گھر نیا ہو گیا
	←	يُصْبِحُ الْبَيْتُ جَدِيدًا گھر نیا ہو جاتا ہے

## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے	←	هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے
هَذِهِ بُيُوتٌ	←	هَذَا بَيْتٌ
تِلْكَ بُيُوتٌ	←	ذَلِكَ بَيْتٌ
الْبُيُوتُ الَّتِي وہ سب خاص گھر جو	←	الْبَيْتُ الَّذِي وہ خاص گھر جو
أَصْبَحَتِ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً گھرنے ہو گئے	←	أَصْبَحَ الْبَيْتُ جَدِيدًا گھر نیا ہو گیا
تُصْبِحُ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً گھرنے ہو جاتے ہیں	←	يُصْبِحُ الْبَيْتُ جَدِيدًا گھر نیا ہو جاتا ہے

## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے	←	هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے
هَذِهِ بُيُوتٌ	←	هَذَا بَيْتٌ
تِلْكَ بُيُوتٌ	←	ذَلِكَ بَيْتٌ
الْبُيُوتُ الَّتِي وہ سب خاص گھر جو	←	الْبَيْتُ الَّذِي وہ خاص گھر جو
أَصْبَحَتِ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً گھرنے ہو گئے	←	أَصْبَحَ الْبَيْتُ جَدِيدًا گھر نیا ہو گیا
تُصْبِحُ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً گھرنے ہو جاتے ہیں	←	يُصْبِحُ الْبَيْتُ جَدِيدًا گھر نیا ہو جاتا ہے
	←	بَيْتٌ وَاسِعٌ

## بَيْتٌ، بُيُوتٌ +

هِيَ بُيُوتٌ وَفِيهَا عِبَادٌ وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہے	←	هُوَ بَيْتٌ وَفِيهِ عَبْدٌ وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے
هَذِهِ بُيُوتٌ	←	هَذَا بَيْتٌ
تِلْكَ بُيُوتٌ	←	ذَلِكَ بَيْتٌ
الْبُيُوتُ الَّتِي وہ سب خاص گھر جو	←	الْبَيْتُ الَّذِي وہ خاص گھر جو
أَصْبَحَتِ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً گھرنے ہو گئے	←	أَصْبَحَ الْبَيْتُ جَدِيدًا گھر نیا ہو گیا
تُصْبِحُ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً گھرنے ہو جاتے ہیں	←	يُصْبِحُ الْبَيْتُ جَدِيدًا گھر نیا ہو جاتا ہے
بُيُوتٌ وَاسِعَةٌ	←	بَيْتٌ وَاسِعٌ

سوال :- ترجمہ کیجیے : اَلْبَيْوتُ

A بہت سے گھر (خاص)

B گھر (خاص)

C بہت سے گھر (عام)

D ایک گھر



سوال :- ترجمہ کیجیے : اَلْبَيْوتُ

A بہت سے گھر (خاص)

B گھر (خاص)

C بہت سے گھر (عام)

D ایک گھر

سوال :- ترجمہ کیجیے : عِبَادُ

A بندہ (عام)

B بندے (عام)

C بندے (خاص)

D بندہ (خاص)

سوال :- ترجمہ کیجیے : عِبَادُ

A بندہ (عام)

B بندے (عام)

C بندے (خاص)

D بندہ (خاص)

سؤال :- هَلْ تُصْبِحُ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً؟

A نَعَمْ، تُصْبِحُ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً

B نَعَمْ، يُصْبِحُ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً

C نَعَمْ، أَصْبَحَتِ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً

D نَعَمْ، يُصْبِحُ الْبَيْتُ جَدِيدَةً

سؤال :- هَلْ تُصْبِحُ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً؟

A نَعَمْ، تُصْبِحُ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً

B نَعَمْ، يُصْبِحُ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً

C نَعَمْ، أَصْبَحَتِ الْبُيُوتُ جَدِيدَةً

D نَعَمْ، يُصْبِحُ الْبَيْتُ جَدِيدَةً

الحمد لله



كِتَابٌ، كُتِبَ +

هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ

كِتَابٌ، كُتِبَ +

هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ



هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ



# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ



هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ



هَذَا كِتَابٌ

# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ



هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ

هَذِهِ كُتِبَ



هَذَا كِتَابٌ

# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ	←	هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ
هَذِهِ كُتِبَ	←	هَذَا كِتَابٌ
	←	ذَلِكَ كِتَابٌ

# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ	←	هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ
هَذِهِ كُتِبَ	←	هَذَا كِتَابٌ
تِلْكَ كُتِبَ	←	ذَلِكَ كِتَابٌ

# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ	←	هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ
هَذِهِ كُتِبَ	←	هَذَا كِتَابٌ
تِلْكَ كُتِبَ	←	ذَلِكَ كِتَابٌ
	←	الْكِتَابُ الَّذِي

# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ	←	هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ
هَذِهِ كُتِبَ	←	هَذَا كِتَابٌ
تِلْكَ كُتِبَ	←	ذَلِكَ كِتَابٌ
الْكُتُبُ الَّتِي	←	الْكِتَابُ الَّذِي

## كِتَابٌ، كُتِبَ +

هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ	←	هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ
هَذَا كِتَابٌ	←	هَذِهِ كُتِبَ
ذَلِكَ كِتَابٌ	←	تِلْكَ كُتِبَ
الْكِتَابُ الَّذِي	←	الْكُتُبُ الَّتِي
أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	

# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ	←	هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ
هَذَا كِتَابٌ	←	هَذِهِ كُتِبَ
ذَلِكَ كِتَابٌ	←	تِلْكَ كُتِبَ
الْكِتَابُ الَّذِي	←	الْكُتُبُ الَّتِي
أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	أَصْبَحَتِ الْكُتُبُ قَدِيمَةً



# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ	←	هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ
هَذَا كِتَابٌ	←	هَذِهِ كُتِبَ
ذَلِكَ كِتَابٌ	←	تِلْكَ كُتِبَ
الْكِتَابُ الَّذِي	←	الْكُتُبُ الَّتِي
أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	أَصْبَحَتِ الْكُتُبُ قَدِيمَةً
يُصْبِحُ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	

# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ	←	هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ
هَذَا كِتَابٌ	←	هَذِهِ كُتِبَ
ذَلِكَ كِتَابٌ	←	تِلْكَ كُتِبَ
الْكِتَابُ الَّذِي	←	الْكُتُبُ الَّتِي
أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	أَصْبَحَتِ الْكُتُبُ قَدِيمَةً
يُصْبِحُ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	تُصْبِحُ الْكُتُبُ قَدِيمَةً

# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ	←	هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ
هَذَا كِتَابٌ	←	هَذِهِ كُتِبَ
ذَلِكَ كِتَابٌ	←	تِلْكَ كُتِبَ
الْكِتَابُ الَّذِي	←	الْكُتُبُ الَّتِي
أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	أَصْبَحَتِ الْكُتُبُ قَدِيمَةً
يُصْبِحُ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	تُصْبِحُ الْكُتُبُ قَدِيمَةً
كِتَابٌ جَدِيدٌ	←	

# كِتَابٌ، كُتِبَ +

هُوَ كِتَابٌ وَعَلَيْهِ قَلَمٌ	←	هِيَ كُتِبَ وَعَلَيْهَا أَقْلَامٌ
هَذَا كِتَابٌ	←	هَذِهِ كُتِبَ
ذَلِكَ كِتَابٌ	←	تِلْكَ كُتِبَ
الْكِتَابُ الَّذِي	←	الْكُتُبُ الَّتِي
أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	أَصْبَحَتِ الْكُتُبُ قَدِيمَةً
يُصْبِحُ الْكِتَابُ قَدِيمًا	←	تُصْبِحُ الْكُتُبُ قَدِيمَةً
كِتَابٌ جَدِيدٌ	←	كُتِبَ جَدِيدَةً

سوال :- عربی میں ترجمہ کیجیے : "کتابیں"

A كِتَابٌ

B اَلْكِتَابُ

C كُتُبٌ

D كُتَّابٌ

سوال :- عربی میں ترجمہ کیجیے : "کتابیں"

A كِتَابٌ

B اَلْكِتَابُ

C كُتُبٌ

D كُتَّابٌ

سؤال :- هَلْ أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمًا؟

A نَعَمْ، أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمَةً

B نَعَمْ، أَصْبَحَتِ الْكِتَابُ قَدِيمًا

C نَعَمْ، أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمَةً

D نَعَمْ، أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمًا

سؤال :- هَلْ أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمًا؟

A نَعَمْ، أَصْبَحَ الْكُتُبُ قَدِيمَةً

B نَعَمْ، أَصْبَحَتِ الْكِتَابُ قَدِيمًا

C نَعَمْ، أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمَةً

D نَعَمْ، أَصْبَحَ الْكِتَابُ قَدِيمًا



سوال :- يُصْبِحُ الْكِتَابُ قَدِيمًا

A أَصْبَحَ الْكُتُبُ قَدِيمَةً

B تُصْبِحُ الْكُتُبُ قَدِيمَةً

C تُصْبِحُ الْكُتُبُ قَدِيمًا

D أَصْبَحَتِ الْكِتَابُ قَدِيمَةً

سؤال :- يُصْبِحُ الْكِتَابُ قَدِيمًا

A أَصْبَحَ الْكُتُبُ قَدِيمَةً

B تُصْبِحُ الْكُتُبُ قَدِيمَةً


C تُصْبِحُ الْكُتُبُ قَدِيمًا

D أَصْبَحَتِ الْكِتَابُ قَدِيمَةً

الحمد لله



ٹوٹی ہوئی جمع کے لیے واحد مؤنث الفاظ استعمال  
کیے جائیں گے۔



آپ اس قاعدہ کی دوسرے الفاظ کے ذریعے بھی مشق کر سکتے  
ہیں جو آپ نے پچھلے سبق میں سیکھا ہے۔



آئیے، قرآن سے تین مثالیں لیتے ہیں:

زَوْجٌ مُّطَهَّرٌ	←	أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
كَتَبَ يَدٌ	←	كَتَبَتْ أَيْدِي
يَجْرِي نَهْرٌ	←	تَجْرِي أَنْهَارٌ

آئیے، قرآنی آیتوں سے مثالیں لیتے ہیں:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ							
اور کون	بڑا ظالم	سے - جو	روکا				
مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ خَرَابَهَا <sup>ط</sup>							
اللہ کی مسجدیں	کہ	ذکر کیا جائے	اُس میں	اُس کا نام	اور کوشش کی	میں	اُس کی ویرانی

## دوسری مثال :

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۱ ط	وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً ۲ لا	عَامِلَةٌ ۳ لا
کیا تمہارے پاس آئی	بات	ڈھاپنے والی
1	کتنے منہ	اُس دن
ذلیل و عاجز	2	عمل کرنے والے
نَاصِبَةٌ ۳ لا	تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ۴ لا	تُسْقَى مِنْ عَيْنِ اِنِيَّةٍ
مشقت اٹھانے والے	3	داخل ہوں گے
آگ	دہکتی ہوئی	4
پلائے جائیں گے	سے	چشمہ
گھولتا ہوا		



سوال :- ترجمہ کیجیے : مَسْجِدَ اللّٰهِ

A اللہ کی مسجدیں

B اللہ کی مسجد

C اللہ کی مسجدوں کے پاس

D اللہ کی مسجد کے پاس

سوال :- ترجمہ کیجیے : مَسْجِدَ اللّٰهِ

A اللہ کی مسجدیں

B اللہ کی مسجد

C اللہ کی مسجدوں کے پاس

D اللہ کی مسجد کے پاس

سوال :- ترجمہ کیجیے : وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

A آپ نے کوشش کی انہیں ویران کرنے کی

B اور کوشش کی انہیں ویران کرنے کی

C اور وہ سب کوشش کرتے ہیں انہیں ویران کرنے کی

D اور وہ کوشش کرتا ہے انہیں ویران کرنے کی

سوال :- ترجمہ کیجیے : وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

A آپ نے کوشش کی انہیں ویران کرنے کی

B اور کوشش کی انہیں ویران کرنے کی

C اور وہ سب کوشش کرتے ہیں انہیں ویران کرنے کی

D اور وہ کوشش کرتا ہے انہیں ویران کرنے کی

الْحَمْدُ لِلَّهِ





# سات ہوم ورک

دوتلاوت کے (۵ منٹ مصحف سے، ۵ منٹ حافظے سے)

دوپڑھنے کے (کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے)

اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا mp3 سننا

اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا

اور نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا

آپ منتخب ہیں

1- اپنے لیے دعا کریں:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

2- اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ

اے اللہ! قرآن کی کلاس میں قرآن  
سیکھنے میں ہماری مدد فرما!



# ویڈیوز سے پڑھائیے!

◀ اگر آپ ویڈیو کو دیکھنے کی پابندی نہ کر سکیں تو موثر طریقہ یہ ہے کہ

اپنے 2، 5، 10 دوستوں کو جمع کیجیے اور مل کر ویڈیو سے سیکھیے۔

◀ جہاں میں **عِلْم** کہوں، ویڈیو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجیے۔



# ورنہ آن لائن ٹیچرز سے پڑھیے

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹیچرز موجود ہیں۔

◀ اپنی ساری فیملی کے ساتھ سیکھیے یا بچوں کو پڑھائیے۔

[www.understandquran.com](http://www.understandquran.com)





بہتر یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیے!

سکھنے کا بہتر طریقہ سکھانا ہے! <

PPT فائلس ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھائیے! <

[www.understandquran.com](http://www.understandquran.com)



# ٹیچر ٹریننگ لیجیے!

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹرینرز موجود ہیں، اور

◀ ٹیچر ٹریننگ کا مواد بھی

[www.understandquran.com](http://www.understandquran.com)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ  
نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ  
نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ.



اے اللہ ہمیں  
• قرآن پڑھنے،  
• سمجھنے،  
• غور کرنے،  
• عمل کرنے،  
• پھیلانے،  
• اور یاد کرنے کی  
• توفیق دے۔